



## ”رب تعالیٰ بندہ کے سب سے نزدیک رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے“

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا : ”رب تعالیٰ بندہ کے سب سے نزدیک رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے لہذا اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ہو جاؤ۔“

[صحیح] [اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے]

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری تہائی حصہ میں ہوتا ہے اس لیے ہر شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ رات کے اس حصہ میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور توبہ کرے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3236>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

